



### رہائشیوں کو سٹی کے رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی ورچوئل عوامی معلوماتی نشست میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے

برامپٹن، آن (8 مارچ 2021) – سٹی آف برامپٹن رور واک کو حقیقت بنانے میں اگلے قدم اٹھا رہا ہے۔ رہائشیوں کو دعوت کی جاتی ہے کہ وہ بروز بدھ، 17 مارچ 2021 کو شام 6:30 تا رات 8 سٹی کے دوسرے رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی عوامی معلومات نشست میں شرکت کریں۔ رہائشیوں کے پاس کایا پلٹ رور واک پراجیکٹ کے متعلق مزید جاننے اور ڈیزائن کی سمتوں اور تصورات کے بارے میں اپنی رائے فراہم کرنے کا موقع ہو گا۔

یہ عوامی معلوماتی نشست آن لائن ہو گی، جس کے لیے میٹنگ کے دن لائیو چلنے والا لنک [www.brampton.ca/riverwalk](http://www.brampton.ca/riverwalk) پر دستیاب ہو گا۔ پراجیکٹ کے پس منظر کی معلومات یہاں پائی جا سکتی ہیں

رور واک پراجیکٹ برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن میں دوبارہ جان ڈلنے میں مدد دے گا اور اسے قابل استحکام، صحت بخش اور لچکدار بنائے گا۔ رور واک کا مقصد ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سیلاب کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک پرجدت اور طویل مدتی حل تیار کرنا ہے، جس کے نتیجے میں شہری بڑھوتری و ترقی ہو گی، سرمایہ کاری کے کشش پیدا ہو گی اور علاقے میں عوامی جگہیں بڑھیں گی اور بہتر ہوں گی۔

### فوری حقائق

- رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کھلی جگہ کا ایک ماسٹر پلان ہے، جو سیلاب سے بچاؤ کے انفراسٹرکچر کو جمالیاتی طور پر تیار کرنے، وادی میں کھلی جگہ کے نظام، فعال نقل و حمل کے نیٹ ورک کے انضمام، ماحولیاتی و معاشی استحکامیت، عوامی صحت کے مسائل اور پروگراموں اور رور واک کے لیے ایک مجموعی نظریے کے نفاذ کے حوالے سے تصورات تیار کرے گا۔
- رور واک یقینی بنائے گا کہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن وہاں رہنے اور گھومنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک پرلطف جگہ ہو۔
- "نہ صرف رور واک پراجیکٹ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سیلاب کا خطرہ کم کرتا ہے، بلکہ یہ شہری بڑھوتری اور ترقی پیدا کر کے اور علاقے میں سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کر کے مواقع کا ایک شہر بننے کی سٹی کی ترجیح کے حصول کو ممکن بنانے ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔
- رور واک اس علاقے میں ایک تبدیل شدہ ایٹوبیکوک کریک کا نظریہ رکھتا ہے، جس کے اردگرد عوامی جگہیں اور پارکس ہوں، جو ایٹوبیکوک کریک ویلی کوریڈور اور بیدل راستوں کے ایک جال سے جڑے ہوں۔
- توقع کے مطابق یہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں 3.6 ملین مربع فٹ رہائشی، کاروباری اور پرجون کی جگہ کھولے گا، جس سے 23,000 سے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی اور GDP پر \$1.4 ارب کا اثر ہو گا۔
- نومبر 2020 میں، حکومت کینیڈا نے اعلان کیا کہ سٹی آف برامپٹن کو EA میں بیان کردہ سیلاب سے بچاؤ کا کام کروانے کے لیے ڈراسٹر مٹیکیشن اینڈ ایڈاپشن فنڈ کے تحت \$38.8 ملین موصول ہوں گے۔ اس کے علاوہ، کونسل نے سیلاب سے بچاؤ کے کاموں کے تفصیلی ڈیزائن کی تیاری کے لیے 2021 کیپیٹل بجٹ میں سے \$5.88 ملین کی منظوری دی۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

